

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن، 30 ستمبر کو نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن اور اورینج شرٹ ڈے کے طور پر باضابطہ طور پر تسلیم کر رہا ہے

برامپٹن، آن (17 ستمبر 2021) – اس ہفتے برامپٹن سٹی کونسل نے 30 ستمبر کو باضابطہ طور پر کینیڈا کے پہلے نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔

اس موقع پر سٹی کی تمام سہولیات بند رہیں گی اور ٹرانزٹ سروسز اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق کام کریں گی، جس سے شہر اور کمیونٹی کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے، ان کا مشاہدہ کرنے اور ان میں حصہ لینے کے حوالے سے تمام ملازمین اور رہائشیوں کی حوصلہ افزائی ہو گی کہ وہ ان مواقع میں شرکت کریں۔

### برامپٹن میں نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ڈے اور اورینج شرٹ ڈے

سٹی ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ویک کے حوالے سے 27 ستمبر تا 1 اکتوبر تک ایوری چائلڈ میٹرز کے پرچم لہرا کر نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن اور اورینج شرٹ ڈے کی اہمیت کو تسلیم اور اجاگر کرے گا۔ 30 ستمبر کو سٹی ہال پر لہرائے جانے والے جھنڈے سرنگوں کر دیے جائیں گے اور برامپٹن سٹی ہال کلاک ٹاور کی روشنی کو نارنجی رنگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

سیکھنے کے تسلسل کو فروغ دینے کے لیے، ملازمین اور عوام الناس کے لیے سٹی قابل بھروسہ اور قابل رسائی مواد سے بھرپور ویب سائٹ [www.brampton.ca/bramptonremembers](http://www.brampton.ca/bramptonremembers) مہیا کرے گا۔

سٹی آف برامپٹن اپنے کمیونٹی گروپس اور لیڈرز کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور 30 ستمبر کے اپنے پروگراموں کی تقریبات کو [برامپٹن کے ایونٹس کیلنڈر](#) پر ڈالیں۔

### نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ڈے کے متعلق

جون 2021 میں، کینیڈا کی حکومت نے C-5 کے نام سے ایک بل پاس کیا تھا، جس کے تحت وفاقی سطح کے ملازمین کے لیے ایک نئی عوامی چھٹی کو منظور کیا گیا، جسے نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ڈے کا نام دیا گیا۔

اس نئی چھٹی کا تعلق کینیڈا کے ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن کمیشن کی جانب سے کارروائی کے کل 94 احکامات میں سے ایکشن نمبر 80 سے ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد فرسٹ نیشنز، انوٹ اور میٹس سے بچ جانے والوں، ان کے اہل خانہ اور کمیونٹیز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ ان کی تاریخ اور رہائشی اسکولوں کی وراثت کی عوامی یادگار مفاہمتی عمل کا ایک اہم جزو رہے۔

لنکس

- [سٹی آف برامپٹن – برامپٹن ریممبرز](#)
- [سٹی آف برامپٹن – ایونٹس کیلنڈر](#)
- [ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن کمیشن آف کینیڈا \(TRC\)](#)
- [گورنمنٹ آف کینیڈا ورچوئل تقریبات - نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ڈے کو مارک کریں](#)
- [گورنمنٹ آف کینیڈا – فیڈرل سٹیجیوٹری ہالڈے: نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن](#)
- [گورنمنٹ آف کینیڈا – بل C-5 \(نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن\)](#)
- [نیشنل سنٹر فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیئیشن](#)
- [اورینج شرٹ ڈے](#)

"جیسا کہ ہم 30 ستمبر کو نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیٹیشن اور اورنج شرٹ ڈے کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں، سٹی آف برامپٹن ایسے بامقصد اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتا ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جوابدہی کی طرف لے جاتے ہوں اور ہم یہاں کے آبائی لوگوں اور ان کی کمیونٹیز کے ساتھ سچائی اور مفاہمت کے حصول کی جانب گامزن رہیں۔ اس سال کے اوائل میں سابق رہائشی اسکولوں کے مقامات سے ملنے والی بولناک دریافتوں نے ہمیں ان اہم کاموں کی واضح یاد دہانی کرائی ہے جو ہمیں ایک شہر، ایک کمیونٹی اور ایک ملک کے طور پر لازمی کرنے ہوں گے۔ میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ 30 ستمبر کو شہر اور کمیونٹی کی قیادت میں منعقد کیے جانے والے پروگراموں میں حصہ لیں تاکہ ہم غور و فکر اور یاددہانی کا عمل جاری رکھ سکیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیٹیشن کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور اس کو ایک تنظیم کے طور پر باضابطہ طریقے سے منانے سے ہم مقامی آبائی برادریوں کے ساتھ سچائی اور مفاہمت کے ماحول کو پروان چڑھائیں گے۔ ہماری ٹیم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ ملازمین، رہائشیوں اور کمیونٹی ممبران کے لیے دستیاب وسائل اور پروگراموں تک رسائی کا موقع موجود ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس اہم دن کی ایک بامعنی انداز میں عکاسی کریں اور اس میں بھرپور طور پر حصہ لیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"نیشنل ڈے فار ٹروٹھ اینڈ ری کنسیلیٹیشن کے موقع پر ہم باہمی طور پر وابستہ مکالموں اور غور و فکر کے ذریعے ایسے تعلقات قائم کرنے میں آگے بڑھ سکتے ہیں جن کی بنیاد کینیڈا کی جانب سے باہمی احترام، اعتماد اور مقامی آبائی لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی ذمہ داری کو تسلیم کرنے پر رکھی گئی ہو۔ ایک شہر اور ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہم سب ایک ایسے معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو زیادہ دردمندانہ، جامع اور سب کے لیے مساوی ہو۔ میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ کینیڈا میں مقامی کمیونٹیز کی تاریخ کو خراج تحسین پیش کرنے اور باہمی احترام کی بنیاد پر شہر کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریبات اور پروگراموں کے سلسلے میں شرکت کریں اور 30 ستمبر کو اس کی بھرپور عکاسی کرنے کے مواقع تلاش کریں۔"

- مشال بانرے، منیجر ایکویٹی آفس، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)